



Ref No. AASML/PSX/26/04

January 05, 2026

The General Manager,
M/s. Pakistan Stock Exchange Limited;
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Dear Sir,

We are enclosing herewith Copies of our advertisements to be published in daily "**The Nation**", and daily "**Dunya**", January 06, 2026 regarding that Notice of Annual General Meeting of the Company.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,



ZUHAIR ABBAS

Company Secretary

Encl: as stated above



AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED

NOTICE OF 35th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of Al-Abbas Sugar Mills Limited will be held at **Mövenpick Hotel, Karachi on Wednesday, January 28, 2026 at 11:30 AM as well as through online meeting** to transact the following business:

Ordinary Business

- 1. To confirm the minutes of the 34th Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on January 28, 2025.
- 2. To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements for the year ended September 30, 2025, together with the reports of the Auditors’ and Directors’ thereon.
- 3. To declare and approve the cash dividend for the year ended September 30, 2025 on the ordinary shares of the Company. The Directors have recommended a final cash dividend at 130% i.e. Rs. 13.00 per share. This is in addition to the interim dividend **370%** i.e. Rs. **37.00** per share already paid. The total dividend for 2024-25 will thus amount to Rs.868,115 million i.e. Rs.50.00 per share.
- 4. To appoint auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration. The retiring auditors M/s. BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants, being eligible have offered themselves for re-appointment for the year 2025-2026.
- 5. To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board

Karachi: 06 January, 2026

Zuhair Abbas
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from January 22, 2026 to January 28, 2026 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of final dividend. Transfer requests on prescribed format, received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 –B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e Faisal, Karachi-74400 on or before the close of business on January 21, 2026 will be treated ‘in time’ for the purpose of above entitlement(s) to the transferees and/or to attend the AGM and vote at the meeting.

2. Virtual Participation in the AGM Proceedings:

a. Through Electronic Means (Via Video Conferencing)

In the light of the relevant guidelines issued by the SECP from time to time, the shareholders are encouraged to participate in the General Meeting through electronic facility arranged by the Company. In order to attend the General Meeting through electronic facility, the shareholders are requested to get themselves registered with the company before the time of General Meeting at agm@aasml.com; please provide your details as follows:

Name of Shareholder	CNIC	Folio No. / CDC Account No.	No. of Shares Shares	Contact No.	Email Address

Online meeting link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by the end of business at 02:00 p.m. on Tuesday January 27, 2026. The login facility shall remain open from 11:00 a.m. till the end of the Meeting on January 28, 2026.

3. Participation in the AGM:

All members, entitled to attend and vote at the meeting, are entitled to appoint another person in writing as their proxy to attend and vote on their behalf. A proxy must be a member of the Company. In case of corporate entities, power of attorney or other authority / board resolution under which it is signed or a notarially attested copy of power of attorney lodged at the Company’s Registered Office address; Pardesi House, Survey No. 2/1, R.Y.16, Old Queens Road, Karachi at least 48 hours before the time of the meeting.

CDC account holders will further have to follow the below mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

- i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the Regulations shall authenticate his/her original valid CNIC or the original passport at the time of attending the meeting.
- ii. Members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
- iii. In case of corporate entity, the Board of Directors’ resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies:

- i. In case of individuals, the account holders or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall submit the proxy form as per above requirements.
- ii. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iii. The proxy shall produce original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.
- iv. In case of corporate entity, the Board of Directors’ resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- v. Proxy form will be witnessed by two persons whose names, addresses and valid CNIC numbers shall be mentioned on the form.

4. Circulation of Annual Report through QR Code and Through Weblink:

In accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 369(I)/2023 dated 21 March 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company has obtained Shareholders’ approval in the 33rd Annual General Meeting of the Company held on January 25, 2024 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through following QR Code and Weblink.

<https://www.aasml.com/investor-information/>



5. Transmission of Audited Financial Statements / Notices Through Email:

Members are hereby informed that pursuant to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email.

In compliance with the above mentioned requirements, members who wish to receive the Annual Report 2025 in electronic form may file an application as per the form provided on the Company’s website in compliance with the subject SRO. The members who have provided consent to receive Annual Report 2025 can subsequently request any other media including hard copy which shall be provided free of cost.

6. Placement of Financial Statements on Website:

The Financial Statements of the Company for the year ended September 30, 2025 along with reports have been placed on the website of the Company: <https://www.aasml.com/investor-information/>

7. Mandatory Information – (Email, CNIC, IBAN and Zakat Declaration):

In compliance with Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018 members are requested to immediately provide their mandatory information such as CNIC number, updated mailing address, email, contact mobile/telephone number and International Banking Account Number (IBAN) together with a copy of their CNIC to update our records and to avoid any non-compliance of the law. Otherwise, all dividends will be withheld in terms of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017;

- For physical shares to M/s CDC Share Services Limited
- For shares in CDS to CDC Investors A/c Services or respective participant

Members are requested to submit a declaration (CZ-50) as per Zakat & Ushr Ordinance 1980 for zakat exemption and advise a change in address if any.

8. E-Dividend Bank Mandate:

As per Section 242 of the Companies Act, 2017, in the case of a Public listed company, any dividend payable in cash shall only be remitted through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

Therefore, through this notice, all shareholders are requested to update their bank account No. (IBAN) and details in the Central Depository System through respective participants. In case of physical shares, to provide bank account details to our Share Registrar, M/s CDC Share Services Limited. Please ensure an early update of your particulars to avoid any inconvenience. The e-Dividend mandate form is also available on Company’s website: <https://www.aasml.com/media/latest-news/>.

9. Deduction of Income Tax from Dividend under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (“Income tax Ordinance”):

The rates of deduction of withholding tax for Filers and Non-Filers as prescribed under Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, are as under:

S.No.	Nature of Shareholder	Rate of Deduction
1	Filers of income tax return	15%
2	Non – filer of income tax return	30%

To enable the Company to make tax deductions on the amount of cash dividend at 15% instead of 30%, shareholders are requested to please check and ensure Filer status from Active Taxpayers List (ATL) available at FBR website <https://www.fbr.gov.pk> as well as ensure that their CNIC/Passport number has been recorded by the participant/Investor Account Services or by Share Registrar (in case of physical shareholding). Corporate entities (non-individual shareholders) should ensure that their names and National Tax Numbers (NTN) are available in ATL at FBR website and recorded by respective Participant/Investor Account Services or in case of physical shareholding by Company’s Share Registrar.

Withholding tax on Dividend in case of Joint Account Holders

Members who have joint shareholdings held by Filers and Non-Filers shall be dealt with separately and in such particular situation, each account holder is to be treated as either a Filer or a Non-Filer and tax will be deducted according to his/her shareholding.

If the share is not ascertainable then each account holder will be assumed to hold equal proportion of shares and the deduction will be made accordingly. Therefore, in order to avoid deduction of tax at a higher rate, the joint account holders are requested to provide the below details of their shareholding to the Share Registrar of the Company latest by the Annual General Meeting date.

Folio / CDC A/c No.	Name of Shareholder	CNIC	Shareholding	Total Shares	Principal / Joint Shareholder

Valid Tax Exemption Certificate for Exemption from Withholding Tax

A valid tax exemption certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Members who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax Ordinance, 2001 and wish to seek an exemption must provide a copy of their valid tax exemption certificate to the Shares Registrar prior to the date of commencement of Book closure otherwise tax will be deducted according to the applicable law.

10. Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:

An updated list for unclaimed dividend / shares of the Company is available on the Company’s website <https://www.aasml.com/media/latest-news/>. These are unclaimed dividend / shares, which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and share are lodged promptly. Shareholders, who by any reason, could not claim their dividend, if any, are advised to contact our Share Registrar M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 –B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e Faisal, Karachi-74400 and collect / enquire about their unclaimed dividend, if any. In case no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid Account and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244 (2) of Companies Act, 2017.

11. Consent for video conference facility:

Pursuant to Section 132(2) & section 134(b) of the Companies Act, 2017, if the Company receives consent form from Shareholders holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to registered office of the Company:

I / We, _____ of _____, being a member of Al-Abbas Sugar Mills Limited, holder of _____ ordinary share(s) as per Registered Folio / CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.

Signature of Member

12. Deposit of Physical Shares into CDC Accounts

As per Section 72 of the Companies Act, 2017 all existing companies are required to convert their physical shares into book-entry form within a period not exceeding four years from the date of commencement of the Companies Act, 2017.

The Securities & Exchange Commission of Pakistan through its circular # CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021 has advised the listed companies to pursue their such members who still hold shares in physical form to convert their shares into book-entry form.

We hereby request all such members of Al Abbas Sugar Mills Limited who are holding shares in physical form to convert their shares into book-entry form at the earliest. They are also suggested to contact the Central Depository Company of Pakistan Limited or any active member/stockbroker of the Pakistan Stock Exchange to open an account in the Central Depository System to facilitate the conversion of physical shares into book-entry form.

Members are informed that holding shares in book-entry form has several benefits including but not limited to; _

- Secure and convenient custody of shares
- Conveniently tradeable and transferable
- No risk of loss, damage or theft
- No stamp duty on transfer of shares in book-entry form
- Seamless credit of bonus or right shares

We once again strongly advise members of the Company, in their best interest, to convert their physical shares into book-entry form at the earliest.



العباس شوگر ملز لمیٹڈ

اطلاع برائے 35ویں سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ العباس شوگر ملز لمیٹڈ کا 35واں سالانہ اجلاس عام، بشمول آن لائن، بروز بدھ مورخہ 28 جنوری 2026 بوقت صبح 11:30 بجے بمقام Mövenpick ہوٹل، کراچی میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور کی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔

عمومی امور:

1. کمپنی کے حصص یافتگان کے 34ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 جنوری 2025 کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق۔
2. سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں سے ختم شدہ سال 30 ستمبر 2025 کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کی وصولی، اس پر غور و خوض اور منظوری۔
3. ختم شدہ 30 ستمبر 2025 کے لیے کمپنی کے عمومی حصص پر حتمی نقد منافع منقسمہ 130 فیصد کی شرح سے یعنی بحساب 13,00 روپے فی حصص کی سفارش کی ہے۔ یہ عبوری نقد منافع منقسمہ 370 فیصد کے علاوہ ہے جو کہ بحساب 37.00 روپے فی حصص پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔ اس طرح برائے سال 2024-25 کا کل نقد منافع منقسمہ 868.115 ملین روپے بحساب 50.00 روپے فی حصص ہوا ہے۔
4. آئندہ سال کے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بی ڈی او ابراہیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سکندوش ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی متعلقہ اہلیت کی بنیاد پر برائے سال 2025-26 کے لئے دوبارہ تقرری کے لئے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
5. صدر اجلاس عام کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 06 جنوری 2026

گزراشات :

1۔ **مجلس سب کی بندش:**

سالانہ اجلاس عام کے انعقاد اور حتمی نقد منافع منقسمہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کمپنی کی حصص یافتگی کی کتب 22 جنوری 2026 تا 28 جنوری 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ گزراش کی درخواستیں مخصوص فارمیٹ پر کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز بی ڈی او رجسٹرار سرورملیٹڈ بی ڈی سی ہاؤس، بلاک بی، ایس ای ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی، 74400 کو 21 جنوری 2026 کو کاروباری دن کے اختتام سے قبل موصول ہونا چاہئیں۔ صرف اس تاریخ تک موصول ہونے والی گزراشیں سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کی اہل تصدیق جائیں گی۔

2۔ **اجلاس عام میں آن لائن شرکت:**

(الف) برقی طور پر یعنی بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت:

SECP کی دی ہوئی گائیڈ لائنیز، جو اس نے وقتاً فوقتاً جاری کی ہیں کے تحت ایسے تمام حصص یافتگان جو ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اس اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس عام کی تاریخ سے قبل خود کو کمپنی کے پاس رجسٹر کروائیں اور اس کے لیے مندرجہ ذیل معلومات بذریعہ ای میل کمپنی کے اس ای میل ایڈریس agm@aasml.com پر فراہم کریں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئرز کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------	------------	---------------

نیز لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان ممبران کو دی جائیں گی جن کی کاپی ای میل میں مطلوبہ تفصیلات درج ہوتی ہوں گی۔ نیز یہ ای میل کمپنی کو بروز منگل 27 جنوری 2026 کو 2:00 بجے تک موصول ہوں گی۔ نیز لاگ ان کی سہولت 11:00 بجے سے شروع ہوگی اور اجلاس عام بتاریخ 28 جنوری 2026 کے اختتام تک جاری رہے گی۔

3۔ **اجلاس عام میں شرکت:**

برمبر کا اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے نیز وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو، بذریعہ حق رہائی طرف سے پر کسی مقرر کر سکتا ہے نیز پر کسی کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ اور پر کسی کی تقرری کے متعلقہ کاغذات جواز نامزد شدہ اور تصدیق شدہ ہونا ضروری ہیں اور اجلاس عام سے 48 گھنٹے یعنی دو دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر دیسی ہاؤس، سروے نمبر 16، 2، R.Y. اولڈ کوئٹرز روڈ، کراچی کو موصول ہونا ضروری ہیں۔ نیز پر کسی فارم اس نوٹس کے ساتھ شک ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز مندرجہ ذیل کاغذات پر عمل کریں گے جو یکجہ و نیز اینڈ ایکٹیویشن آف پاکستان نے بیان کی ہیں۔

(الف) **اجلاس عام میں شرکت کے لئے:**

- (i) فرد واحد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا جس کی تصدیق ریگولیشن کی اپ لوڈ رجسٹریشن کی تفصیلات سے کی جائے گی۔
- (ii) ممبر سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا قومی شناختی کارڈ، دیگر تفصیلات، آئی ڈی سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر اپنے ہمراہ لائیں۔
- (iii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، اگر پہلے نہیں دیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

(ب) **پراسی کی تقرری کے لئے:**

- (i) فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی سبکیہ ریٹیز اور رجسٹریشن تفصیلات خواہاں کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں، کو اپنے پراسی فارم کمپنی خواہاں کے تحت جمع کروانے ہوں گے۔
- (ii) پراسی کو اپنے اور حتمی حصص یافتہ کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل پر کسی فارم کے ہمراہ پیش کرنا لازمی ہے۔
- (iii) پراسی کو اجلاس عام کے وقت اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ لازمی طور پر پیش کرنا ہوگا۔
- (iv) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ، اگر پہلے نہیں دیا ہو، بوقت اجلاس کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔
- (v) پراسی فارم کے کم سے کم دو گواہ ہونے چاہیں جن کے نام، پتے اور اصل قومی شناختی کارڈ نمبر پراسی فارم میں درج ہونے چاہیں۔

4۔ **سالانہ آڈٹ شدہ گواہیوں / نوٹس کی بذریعہ QR کوڈ دستیابی:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 کے مطابق ریگولیشنز اینڈ ایکٹیویشن کیسز کے جاری کردہ ایس آر او 2023 (1) 389 بتاریخ 21 مارچ 2023 کے تقاضوں کے مطابق کمپنی نے گزشتہ سال یعنی کمپنی کے 33 ویں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 25 جنوری 2024 میں حصص یافتگان سے اس امر کی منظوری لی ہے کہ حصص یافتگان اور ممبران کو کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو بذریعہ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے پہنچایا جائے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ درج ذیل QR کوڈ اور ویب لنک پر دستیاب ہے۔



<https://www.aasml.com/investor-information/>

5۔ **سالانہ آڈٹ شدہ گواہیوں / نوٹس کی بذریعہ ای میل ترسیل:**

تمام ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایس ای سی پی کے جاری کردہ ایس آر او 2014 (1) 787 بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (6) 223 کے تحت کمپنیز کو اپنے آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں سے اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کو برقی طور پر یعنی ای میل کے ذریعہ پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ مذکورہ بالا قانونی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ممبران جو سالانہ رپورٹ 2025 برقی طور پر، یعنی بذریعہ ای میل، موصول کے خواہشمند ہیں تو وہ ایک درخواست فارم جو متعلقہ ایس آر او کے مطابق ہے اور اس کا فارمیٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، پُر کر کے جمع کر سکتے ہیں۔ نیز جن ممبران نے متعلقہ قوانین کے تحت بذریعہ ای میل سالانہ رپورٹس 2025 کے حصول کی اجازت دی ہوئی ہے وہ بھی بعد میں ان رپورٹس کی نقل کسی بھی صورت بشمول کتابی صورت مفت حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔

6۔ **سالانہ آڈٹ شدہ گواہیوں کی کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیابی:**

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گواہیوں سے بعد پورس برائے سال 30 ستمبر 2025 کمپنی کی درج ذیل ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

<https://www.aasml.com/investor-information/>

7۔ **لازمی معلومات (ای سی ایل، سی این آئی سی، آئی بی اے این اور کوڈ کا بیان):**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر 119 اور کمپنیز ریگولیشن نمبر 19، کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ خاص) ریگولیشنز 2018 کے تحت حصص یافتگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر لازمی معلومات جیسا کہ قومی شناختی کارڈ نمبر، مستند پیدائش ای میل ایڈریس، فون، موبائل نمبر، زائرین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این)، قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ فراہم کریں تاکہ کمپنی قانون کی حکم دہی سے بچنے کے لیے اپنے رجسٹرڈ نوٹس درست کرے۔ لازمی معلومات کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن نمبر 6 کے تحت مندرجہ ذیل حصص کی منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

- دستاویزی حصص جو CDC شیئرز سرورملیٹڈ کو دینا ہوں
- حصص جو CDS سے CDC انویسٹر اکاؤنٹ (مقررہ شرکت کنندہ) میں ٹرانسفر ہوئے ہوں تو کوڈ کی منہائی سے اشتہاء کے خواہشمند ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کوڈ کو پیش آرڈینیشن 1980 کے تحت ایک فارم CZ-50 کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں نیز پتہ کی تبدیلی کی صورت میں مطلع فرمائیں۔

8۔ **ای ڈیویڈنڈ بینک اکاؤنٹ میں وصولی کا اختیار:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے قواعد و ضوابط کے تحت پبلک لمیٹڈ کمپنی ہونے کی صورت میں کمپنی کو کوئی بھی واجب الادا منافع منقسمہ مقدار شیئرز ہولڈرز کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں براہ راست برقی طور پر ادا کرنے کی پابند ہے۔

لہذا اس نوٹس کے ذریعے تمام حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات، سینٹرل ڈیپازٹری سلم کے پاس موجود ہیں، سے کمپنی کو آگاہ کریں۔ دستاویزی حصص ہونے کی صورت میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورملیٹڈ کو دینا کریں۔ کسی بھی قسم کی زحمت سے بچنے کے لیے براہ کرم اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔

یہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.aasml.com/media/latest-news/> پر بھی دستیاب ہے۔

9۔ **آئنگٹس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منقسمہ سے آئنگٹس کوٹی:**

آئنگٹس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت منافع منقسمہ سے آئنگٹس کی کوٹی فاکر ز اور نان فاکر ز کی بنیاد پر درج ذیل طور پر کی جائے گی۔

نمبر شمار	حصص یافتہ کی نوعیت	ٹیکس کوٹی کی شرح
1	آئنگٹس ریٹرن فائل کرنے والے	15%
2	آئنگٹس ریٹرن فائل نہ کرنے والے	30%

نقد منافع منقسمہ کی رقم سے آئنگٹس کی کوٹی 30% کے بجائے 15% ٹیکس کی کوٹی کے اہل بننے کے لیے ایسے تمام حصص یافتگان جن کا نام ایف بی آر کی فراہم کردہ ویب سائٹ <https://www.fbr.gov.pk> پر موجود ایکٹو ایڈریسز اور آئنگٹس گان کی فہرست ATL میں شامل نہیں ہے یا جو اس کے کردہ فاکر ز ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام حصص کی کتب کی بندش سے قبل ATL میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ شرکت دار / انویسٹر اکاؤنٹ سرورملیٹڈ رجسٹرار نے (حتمی حصص داری کی صورت میں) آپ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر درج کر لیا ہے۔ کارپوریٹ اداروں (غیر انفرادی حصص یافتگان) کو اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ ان کا نام اور رجسٹریشن نمبر (NTN) ایف بی آر کی ویب سائٹ کے ATL میں موجود ہے اور متعلقہ شرکت دار / انویسٹر اکاؤنٹ سرورملیٹڈ حصص داری کی صورت میں شیئرز رجسٹرار نے اپنے رجسٹرڈ میں ضروری ترامیم کی ہیں۔

مشترک اکاؤنٹ ہولڈرز کی صورت میں منافع منقسمہ سے ٹیکس کی کوٹی:

ممبران جو مشترک حصص کے مالک، ہوں ان کے لئے فاکر ز اور نان فاکر ز ہونے کے مطابق علیحدہ علیحدہ کاروائی کی جائے گی، ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو فاکر یا نان فاکر ہونے کی بناء پر پیش آیا جائے گا اور اس کی شیئر ہولڈنگ کے مطابق رجسٹریشن کو منہا کیا جائے گا۔

حصص کا تناسب معلوم نہ ہونے کی صورت میں تمام مشترک اکاؤنٹ ہولڈرز کا مساوی حصہ تصور کیا جائے گا اور اسی کے مطابق ٹیکس کی کوٹی کی جائے گی۔ چنانچہ ٹیکس کوٹی کی بھاری شرح سے بچنے کے لئے مشترک حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ اپنے حصص سے متعلق درج ذیل تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو سالانہ اجلاس سے قبل جمع کروائیں۔

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ	کل حصص	کل پرنسپل / جوائنٹ شیئر ہولڈر

ٹیکس کوٹی سے اٹھنے کے لیے درست ٹیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کی فراہمی:

آئنگٹس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت ٹیکس کوٹی سے بچنے کے لیے ایک درست ٹیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ وہ تمام ممبران جن پر آئنگٹس آرڈیننس 2001 کے دوسرے حصے کے تحت جے کی شق 47B کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ ٹیکس کوٹی سے اٹھنے کے خواہشمند ہیں تو وہ اس شق کے تحت اپنا ٹیکس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے پاس شیئر رجسٹریشن کی کتب کی بندش سے قبل جمع کروائیں بصورت دیگر کمپنی مزید متعلقہ قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے مزید ٹیکس کی کوٹی کی پابند ہوگی۔

10۔ **کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر موصول شدہ منافع منقسمہ / حصص:**

ظہر م سے غیر موصول شدہ منافع منقسمہ / حصص کی تہ ذہین شدہ فہرست کمپنی کی درج ذیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔

<https://www.aasml.com/media/latest-news/>

یہ ایسے تمام غیر موصول شدہ منافع منقسمہ / غیر معمولی شدہ حصص ہیں جو گزشتہ تین سال یا اس سے زائد عرصے سے غیر موصول شدہ / غیر معمولی شدہ ہیں۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے غیر معمولی شدہ منافع منقسمہ / حصص کی وصولی کی درخواستیں فوری طور پر درج کروادی گئی ہیں۔ حصص یافتگان جو کسی بھی وجہ سے کسی منافع منقسمہ کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو انہیں اس کے بارے میں ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز بی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سرورملیٹڈ شیئرز ڈیپازٹس، 99-B بلاک بی، ایس ای ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 سے غیر معمولی شدہ منافع منقسمہ کی وصولی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کوئی دعویٰ درج نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (2) 244 کے تحت قانونی کاروائی میں مل لاتے ہوئے ایسا تمام غیر ادا شدہ منافع منقسمہ وفاقی حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیا جائے گا۔

11۔ **بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی اجازت:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعات (2) 132 اور (b) 134 کے تحت کمپنی کو اگر ایسے ممبران، جن کی شیئرز ہولڈنگ 10 فیصد یا اس سے زائد ہو اور وہ اجلاس عام کی جگہ سے دور کسی اور مقام پر رہتے ہوں، اور ان کی جانب سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کا اجازت نامہ اجلاس عام سے 7 دن قبل موصول ہو تو اس صورت میں کمپنی ان کے لئے ان کے شہر میں یہ سہولت میسر ہونے کی صورت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس عام میں شرکت کا انتظام کرے گی۔ لہذا اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ مہربانی مندرجہ ذیل معلومات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروائیں۔

" میں / ہم _____ ساکن _____ العباس شوگر ملز لمیٹڈ کا ممبر ہونے کے ناطے اور عمومی حصص _____ بمطابق رجسٹرڈ پورٹ فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ بذریعہ درخواست ہڈا ویڈیو کانفرنس سہولت _____ کے لیے درخواست دیتا / دیتی ہوں۔ "

ممبر کے دستخط

12۔ **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں حصص جمع کروانا:**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت تمام کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کاغذی حصص کو فوری طور پر ایس ای سی پی کی بتائی ہوئی تاریخ سے یک انٹری فارم میں تبدیل کر دیں یعنی کمپنیز ایکٹ 2017 کے اطلاقی کی تاریخ سے چار سال کے اندر اندر تمام حتمی حصص کو الیکٹرانک یعنی برقی شکل میں تبدیل کر دیں۔

سکیورٹیز اینڈ ایکٹیویشن کیسز آف پاکستان نے اپنے ایک حکم نامے 640-639-CSD/ED/Misc./2016 بتاریخ 26 مارچ 2021 کے تحت ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام لمیٹڈ کمپنیز اپنے حصص یافتگان پر زور دیں کہ اپنے تمام حصص یافتگان جن کے پاس حصص دستاویزی فارم میں ہوں تو وہ جلد از جلد اپنے حصص یک انٹری فارم میں تبدیل کر دیں۔

لہذا ہم ایسے تمام حصص یافتگان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے حصص کو دستاویزی فارم میں ہیں جلد از جلد یک انٹری فارم میں کروائیں۔ ان کو یہ تجویز بھی دی جاتی ہے کہ وہ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی یا کسی بھی فعال ممبر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بروکر کے ساتھ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیں تاکہ دستاویزی حصص کی یک انٹری فارم میں تبدیلی کے عمل میں آسانی ہو سکے۔ حصص کی یک انٹری کرنے سے حصص یافتگان کو کسی طرح کی سہولیات مہیا ہوں گی جن میں کہ:

- حصص کی باقیات کا محفوظ قویل
- تجارت اور ٹرانسفر میں آسانی
- نقصان اور چوری سے حفاظت
- یک انٹری فارم میں کرے وقت اسٹاک پیوٹی کے اخراجات کی بچت
- پائرس / رائٹ شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فوری منتقلی

ہم ایک بار پھر العباس شوگر ملز لمیٹڈ کے ممبران کو پرورد مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد میں اپنے حصص کا اندراج فوری طور پر یک انٹری میں کروالیں۔